

Model Paper

Physics Paper – IX

- 1- ہر سوال کے سامنے چار دائرے دئے گئے ہیں، صرف صحیح جواب والا دائرة بھروسیں۔
 2- دائروں کو شیئر (بھرنے) کے لئے نیلے یا کالے رنگ کا مارک استعمال کریں۔
 3- جواب میں ایک سے زائد دائرے بھرنے سے جواب غلط تصور ہو گا۔

Time Allowed: 15 Minutes

SECTION – A

Marks : 12

1	Temperature and amount of substance are physical quantities. درج حرارت اور مقدار کس قسم کی مقداریں ہیں؟	<input type="radio"/> Base بنیادی	<input type="radio"/> Derived مانعو	<input type="radio"/> Base and derived بنیادی اور مانعو	<input type="radio"/> None of these ان میں کوئی نہیں
2	Rate of change of velocity is called ولاسی میں تبدیلی کی شرح کو کہتے ہیں۔	<input type="radio"/> Distance فاصلہ	<input type="radio"/> Speed سینیٹ	<input type="radio"/> Displacement ہٹاؤ	<input type="radio"/> Acceleration اسرائے
3	If the magnitude of velocity decrease with respect to time it is called acceleration. اگر کسی جسم کی ولاسی کی مقدار وقت کے ساتھ کم ہو تو جسم کی اسرائے ہو گی۔	<input type="radio"/> Positive ثبت	<input type="radio"/> Uniform یکساں	<input type="radio"/> Negative منفی	<input type="radio"/> None of these ان میں کوئی نہیں
4	The first part of Newton First Law of motion describe the state of نیوٹن کے پہلے قانون حرکت کا پہلا حصہ کسی جسم کی حالت کو کہتے ہیں۔	<input type="radio"/> Rest حالت سکون	<input type="radio"/> Motion حالت حرکت	<input type="radio"/> Uniform motion یکساں حرکت	<input type="radio"/> None of these ان میں کوئی نہیں
5	If mass of a girl on earth is 60kg then her mass on moon will be.... اگر ایک لڑکی کی کیمیت زمین پر 60 کلوگرام ہے۔ تو چاند پر اس کی کیمیت ہو گی۔	<input type="radio"/> 30 kg	<input type="radio"/> 60 kg	<input type="radio"/> 90 kg	<input type="radio"/> 120 kg
6	The point about which mass is equally distributed in all directions is called..... کسی جسم کا وہ نقطہ جس کے تمام اطراف پر اس کی کیمیت یکساں پھیلی ہوئی ہو کہلاتی ہے۔	<input type="radio"/> Center of gravity مرکز شغل	<input type="radio"/> Center of body مرکز جسم	<input type="radio"/> Center of mass مرکز کمیت	<input type="radio"/> Center of earth مرکز زمین
7	The value of "g" at the surface of moon is چاند کی سطح پر تھی اسرائے "g" کی کیمیت ہو گی۔	<input type="radio"/> 9.8 m/s ²	<input type="radio"/> 10 m/s ²	<input type="radio"/> 1.66 m/s ²	<input type="radio"/> 1.2 m/s ²
8	The energy obtained from the fuels is called..... جو تو انی بیدھن سے حاصل ہوتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں۔	<input type="radio"/> Radiant energy اشعاع کی توانائی	<input type="radio"/> Heat energy حرارتی توانائی	<input type="radio"/> Chemical energy کیمیائی توانائی	<input type="radio"/> Sound energy آواز کی توانائی
9	The fourth state of matter is called..... ادے کی چوتھی حالت کو کہتے ہیں۔	<input type="radio"/> Solid خوش	<input type="radio"/> Liquid مائع	<input type="radio"/> Gas گیس	<input type="radio"/> Plasma پلازما
10	The property of a body which enables it to regain its original dimension is called ایک جسم کی وہ خاصیت جسکی وجہ سے جسم اپنی اصل حالت کو دوبارہ حاصل کرتا ہے کہلاتی ہے۔	<input type="radio"/> Inertia جہود	<input type="radio"/> Elasticity چک	<input type="radio"/> Stress کھنچاؤ	<input type="radio"/> Strain سٹرین
11	The average kinetic energy of molecules of a body is known as کسی جسم کے مالیکوں کی اوسط حرکتی توانائی کو کہتے ہیں۔	<input type="radio"/> Temperature درجہ حرارت	<input type="radio"/> Pressure دباو	<input type="radio"/> Heat capacity حرارت کی گنجائش	<input type="radio"/> None of these ان میں کوئی نہیں
12	The major source of energy on the earth surface is سطح زمین پر توانائی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔	<input type="radio"/> Sun سورج	<input type="radio"/> Fossil fuels انیدھن	<input type="radio"/> Forests جنگلات	<input type="radio"/> Hydro electricity پن بجلی